

لائبریری سے ادھار لینے کے قوانین

خوش آمدید!

آپ اپنے رابطے کی تفصیلات بدلنے کی صورت میں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں۔

ہمیں امید ہے کہ آپ کا لائبریری کارڈ آپ کے لئے باعث خوشی ہوگا!

آپ گوٹنبرگ میں عوامی لائبریریوں اور موبائل لائبریریوں سے کتابیں، فلمیں، ویڈیو گیمز، اخبارات اور بہت کچھ ادھار لے سکتے ہیں۔

آپ چیزیں مفت ادھار لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لئے کچھ قوانین کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ یہ کتابچہ لائبریری سے ادھار لینے کے قوانین کے بارے میں اہم معلومات پر مشتمل ہے۔

گراں قدر دستاویز

آپ کا لائبریری کارڈ ایک گراں قدر ذاتی دستاویز ہے۔ اگر یہ آپ سے گم ہو جائے تو آپ کو ایک بار میں اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔

آپ اپنا کارڈ کسی بھی وقت 34 34 368 31 0 +4 کے واپس میل سرویس پر کال کرنے سے منسوخ کر سکتے ہیں۔

آپ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے تمام ادھار اشیاء کے لئے ذمہ دار ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک غیر مجاز شخص کی طرف سے اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ والدین / سرپرست اپنے بچوں کے کارڈ کے لئے ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ادھار لی گئی ہو تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔

ادھار کی مدت

ادھار کی مدت عام طور پر تین ہفتے ہے اور آپ کو رسید دیا جائے گا جس میں واپسی کی تاریخ درج ہوگی۔ آپ تمام ادھار لی گئی چیزوں کے لئے ذمہ دار ہیں جب تک آپ اسے واپس نہ کر دیں۔

www.gotlib.goteborg.se پر وہ تمام چیزیں دستیاب ہیں جو آپ کے ادھار کے لئے دستیاب ہیں اور آپ عنوان کی تجدید اور ریزرو کر سکتے ہیں اور ادھار کی مدت دیکھ سکتے ہیں۔

اگر ادھار آئٹم کو نقصان پہنچے یا کھو جائے تو، آپ کو اس کے متبادل کی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ لائبریری ادھار لئے گئے میڈیا کے استعمال کے نتیجے میں تکنیکی آلات کو پہنچنے والے نقصان کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔

واجب الادا اشیاء

اگر آپ وقت پر ادھار اشیاء واپس نہیں کرتے تو آپ پر جرمانہ کا اطلاق ہوگا۔ اضافی سروس کے طور پر، آپ ٹیکسٹ پیغام یا ای میل یاد دہانی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں۔ یاد دہانی کا پیغام واپسی کی تاریخ سے دو دن قبل اور ایک دن بعد بھیجا جاتا ہے۔ واپسی کی تاریخ گزرنے کے دو ہفتے بعد آپ کو بذریعہ پوسٹ ایک خط ارسال کیا جائے گا جس میں آپ کو واجب الادا آئٹم کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ اگر جرمانے ادا نہ کئے جائے تو اسے قرض کی وصولی کرنے والی ایجنسی کے سپرد کیا جائے گا۔

چارجز

آپ کا پہلا لائبریری کارڈ مفت ہے؛ نیا کارڈ بالغوں کے لئے SEK 25 اور بچوں کے لئے SEK 10 ہے۔

واجب الادا اشیاء: SEK 5 فی دن، زیادہ سے زیادہ SEK 60 فی آئٹم۔
کرائے کی فلمیں: SEK 5 فی دن، زیادہ سے زیادہ سیک 100 فی آئٹم۔
اگر کسی اشیاء کو نقصان پہنچا ہو یا کھو گیا ہو تو آپ کو وہ تبدیل کرنا پڑے گا۔
چارجز تبدیلی سے مشروط ہیں۔

رجسٹر

وہ سب کچھ جو آپ ادھار لیتے ہیں یا ریزرو کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے۔ آپ کی معلومات محفوظ ہیں اور ادھار اشیاء واپس کرنے پر انہیں حذف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی لائبریری کو رقم واجب الادا ہے تو جب تک جرمانہ ادا نہیں ہوتا، وہ رجسٹر پر ہی رہے گا۔ اگر آپ کا جرمانہ SEK 100 سے تجاوز کر جائے تو آپ کا لائبریری کارڈ بلاک کر دیا جائے گا جب تک جرمانہ ادا نہیں ہوتا۔

کمپیوٹر

لائبریریوں میں کمپیوٹر موجود ہیں جو بغیر کسی چارج کے استعمال کئے جا سکتے ہیں

آپ کو فحش، نسل پرستانہ یا غیر قانونی مواد تلاش کرنے یا شائع کرنے کے لئے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی اور کے پاس ورڈ یا شناخت استعمال نہیں کر سکتے۔

تکنیکی آلات کے ساتھ احتیاط برتیں اور کسی مسئلے کی صورت میں عملے کو آگاہ کریں اور لائبریری میں دوسروں کا احترام کریں

گوٹنبرگ کی لائبریریاں

www.goteborg.se/bibliotek

نابالغ کے لئے لائبریری کارڈ حاصل کرنے کے لئے قبولیت کے قوانین اور رضامندی

میں اپنے بچے کو لائبریری کارڈ رکھنے کے لئے راضی ہوں اور میں نے گوٹنبرگ میں پبلک لائبریریوں پر لاگو ہونے والے قوانین کو پڑھا ہے۔

قوانین کی قبولیت

میں نے گوٹنبرگ میں پبلک لائبریریوں پر لاگو ہونے والے ادھار سے متعلق قوانین پڑھ لئے ہیں۔

میں ان کی پاسداری کرنا اور ان قوانین میں کسی تبدیلی کے بارے میں اپنے آپ کو باخبر رکھنا سمجھتا/سمجھتی ہوں۔

والدین / سرپرست کے دستخط: _____

بلاک حروف میں نام: _____

لائبریری کارڈ نمبر: _____

بچے کا ذاتی شناخت نمبر: _____

فون نمبر: _____

والدین / سرپرست کا ای میل ایڈریس: _____

ای میل ایڈریس: _____

بچے کا پہلا نام اور مختصر نام _____

دستخط: _____

För personal

Signatur:

Datum:



Göteborgs
Stad